

## Why is the Salah timetable circulated by Hizb ul Ulama incorrect?

### 18 Degrees Subh Sadiq Times FAQ's by Imam Muhammad Shoyaib

The issue of the correct time of Subh Sadiq has become particularly prominent this Ramadhan, as there is a difference of around one hour between our Masjid's Subh Sadiq time and that of the surrounding Masajid. Many people have approached me with their concerns which I have Alhamdulillah addressed. I have recorded these Q&A's on paper for distribution, with the hope that it removes any doubt for many people and results in their keeping of their fast at the correct time. First of all, one should be aware that once a person is conscious of the truth then he must not hide it for fear of backlash from the community or anyone else. Suppression of the truth was the reason behind the destruction of many nations before us. The Holy Qur'aan warns of hiding or withholding the truth:

**"Who can be more unjust than the one who conceals the testimony he has from Allah?" (2:140)**

In the Hadith a very clear warning can be found: **"Those who conceal something (a religious truth) that they know when asked about it will have a bridle of fire put on them on the Day of Resurrection."** (Abu Dawood/ Tirmidhi)

In light of the above verses and the Hadith one can understand the consequences of suppressing the truth. My respected brothers and sisters, the truth has to be told and people must be guided on the correct method, whether it pleases or displeases someone. Now, let me get to the FAQ's on this issue:

**Question:** It is common belief that we should follow our local Masjid or Marakiz. Is this way of thinking correct?

**Answer:** No, it is not correct, as there are only four forms of evidences accepted by our Holy Shariah:

1) The Holy Qur'aan 2) Ahadith 3) Ijmaa e Ummat 4) Qiyaas

Masajid are not part of these FOUR principles. We need to follow what is right in light of the four principles.

**Question:** The majority of the Masjid are following the Hizb ul Ulama 'Mushahahadah' time, so why are we as a minority following a different time?

**Answer:** I will come on to the Mushahahadah timetable later on, but let me tell you: Our Holy Shariah has not deemed the minority or the majority as a criterion for determining truth or falsehood. Rather if one looks at the Qur'aan and Hadith one will clearly see that on many occasions it is the minority that are on the correct path. Let me quote examples of each:

The Holy Qur'aan states: **"But few (Qaleelum) of my slaves are grateful."** (Surah 34 Verse 13)

**"And many of them were 'Fasiqun'."** (Katheerum) (Surah 57 Verse 16)

A Hadith of Prophet (*sallahu alayhi wassallam*) states: **"There will always be a 'Taa'ifah' (group) from my Ummah that will be helped on the truth, their enemies will not be able to harm them, until the order of Allah arrives, (meaning Qiyamah)."** Sahih Bukhari/Muslim

Those familiar with the Arabic language are aware that 'Taa'ifah' means a small group. Therefore, this Hadith clarifies that a minority group, even if it is one individual, can be on the path of truth, even if the whole world is opposed to them. Through the Qur'aanic verses and the Hadith one can conclude that the self made criterion that, 'the majority is Haq, whereas the minority is wrong and Baatil', is indeed false and incorrect.

**Question:** Why can't we follow the Hizb ul Ulama 'Mushahahadah' timetable like the rest, so our Suhoor can also be one hour later?

**Answer:** It is not correct to follow that time for many reasons. Let me explain:

The Holy Qur'aan has declared the time of Subh Sadiq thus:

"Eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread". (Al Baqarah 2:187)

The time for Subh Sadiq is at the crack of dawn or the first speck of light on the eastern horizon, after which darkness ends and the light of morning spreads. The majority of the Fuqaha/Jurists have preferred the crack of dawn to be the time of Subh Sadiq. The fatwa given in the Hanafi Madhab is also on this opinion. (Fataawa Shaami 1:357)

All the scholars of the past and present have practised this opinion.

The Hizb ul Ulama timetable, in which Suhoor ends one hour after our time table, is claimed to be based on the time when the light of Subh Sadiq spreads and covers the horizon. This is known as 'Tabyeen'. Acting upon Tabyeen is bad enough as it is against caution. In matters of obligatory Ibaadat, caution is of great importance. Further, I use the word 'claimed' as in reality there are many problems attached with the so called 'Mushahahadah'; Mushahahadah means 'visual observation'. People have been led to believe that the Hizb ul Ulama times have been set after a year long observation of Subh Sadiq. This is far from the truth. According to their own writings only fifty days of observation were carried out and out of fifty, only ELEVEN days are recorded. There were NO observations for the months of January, April and July.

[Continued Overleaf]

Can a timetable in which 315 days of observation, including THREE whole months, were missed out, be deemed a timetable of Mushahadah? How and according to what criteria were the other Subh Sadiq times fixed? No satisfactory, Shariah compliant, explanation has been provided by Hizb ul Ulama on this issue to date. Correspondence on this issue is available upon request.

Another problem with the Hizb ul Ulama times are that they themselves are not following their own observed times! As I said earlier, only 11 observations are recorded. Out of the 11 observations, the observations carried out on May 15<sup>th</sup>, May 21<sup>st</sup>, May 25<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup> June, 13<sup>th</sup> June, 7<sup>th</sup> August and 16<sup>th</sup> August DO NOT match the times they have given to the Masjid to announce. If the Hizb ul Ulama do not have confidence in their own observations, how can they expect the learned Ulama to go against the Subh Sadiq times agreed upon and observed by the majority of Ulama and astronomers throughout the centuries?

The conclusion is that we are not following the claimed Hizb ul Ulama 'Mushahadah' timetable because:

- A) It contradicts its own observations
- B) There were no observations made throughout the majority of the year
- C) The times have been set according to a formula not acceptable in our Holy Shariah
- D) The observations of Blackburn, Lancashire cannot be used to fix the Subh Sadiq times throughout the UK

Let me end this question on the conclusion of an answer given by Chief Justice Hadhrat Mufti Taqi Uthmani Saheb DB when he was sent this Hizb ul Ulama 'Mushahadah' timetable for approval/endorsement:

1. Shafaq e Abyadh occurs when the sun is 18 degrees below the horizon as does Subh Sadiq. This is the opinion of (Quote) the majority of Ulama and those acquainted with the knowledge of astronomy. There are some who hold the opinion that Shafaq e Abyadh occurs when the Sun is 15 degrees below the horizon.
2. The Mushahadah times you have sent are even BEFORE the time of 15 degrees. Hence (quote) THIS CAN NEVER BE CORRECT. Subh Sadiq occurs before your Mushahadah times.
3. An explanation is given as to why this mistake has occurred in the Mushahadah (visual observations). (Quote) "The changing of seasons, not having the experience of doing Mushahadah and not having the full knowledge of Subh Sadiq has led to this mistake. Hence PREPARE A TIMETABLE ACCORDING TO 18 Degrees and follow that".
4. "Yes, it is correct that the time span between Subh Sadiq and Sunrise is the same as the time span between sunset and Shafaq e Abyadh." (Original Fatwa available on request)

**Question:** So what about the times you are following; where did you get them from and what makes them correct?

**Answer:** The Subh Sadiq time adopted by Masjid e Umer is based on the research of hundreds of years. First of all, let me quote Allamah Shaami RA, the authority in the field of Fatawa whom every Mufti quotes to authenticate their Fatwa. He has advocated 18 degrees to 19 Degrees as the time of Subh Sadiq. (See Radd ul Mukhtaar, Vol 2, Pg 93) Various institutes that are referred to for the Fajr and Isha times currently in use in many countries consider 18 degrees as the minimum degree for calculating Fajr time. For example, Muslim World League (MWL), Umm al-Qura, Makkah, and the University of Islamic Sciences, Karachi. The present day timetable of Darul Uloom Deoband is based on 18 degrees. It is a known fact that the majority of the Muslim World have based their Subh Sadiq times on 18 Degrees. Apart from this, great scholars such as the likes of Sheikh ul Hind, Hadhrat Maulana Mufti Mahmud ul Hasan Saheb RA, Hadhrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri Saheb RA, Hadhrat Moulana Ashraf Ali Thanwi Saheb RA, Allamah Yusuf Binnori RA and many other renowned Ulama have endorsed the Subh Sadiq time based on the sun being 18 degrees below the horizon. The fatwa above shows that one of the most authentic authorities of this era, Hadhrat Mufti Taqi Uthmani Saheb DB, is also of this view. In 1983, in front of many Ulama, a unanimous decision was reached in a gathering headed by the late Mufti e Aazam Hind Hadhrat Mufti Mahmood ul Hasan Saheb Gangohi RA that Shafaq e Abyadh occurs when the sun is 18 degrees below the horizon, as does Subh Sadiq. This agreement was countersigned by the late Hadhrat Mufti Maqbool Ahmad Saheb of Glasgow, who was one of the most senior Muftis of the UK at the time.

**Question:** My knowledge tells me that Mushahadah takes precedent over an Astronomy based time. Is this correct?

**Answer:** Yes this is correct. This is the reason why Ulama over the years have undertaken the task of Mushahadah/visual observation throughout the world. Their observations have matched the times of 18 Degrees. Such observations have been carried out here in the UK in places such as Glasgow, London, Batley and Preston.

And Allah knows best.

This is a very brief article. Gain in-depth knowledge on this issue by visiting: [www.salahtimes.wikispaces.com](http://www.salahtimes.wikispaces.com)

## مسجد عمر کے صبح صادق کے متعلق امام مسجد مولانا محمد شعیب صاحب سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات

اسال رمضان المبارک میں صبح صادق کا معاملہ ہر جگہ نمایاں اور ممتاز رہا۔ مسجد عمر کے اردگرد مساجد کے وقت میں تقریباً ایک گھنٹہ کا فرق تھا بہت سے لوگوں نے اس سلسلہ میں مجھ سے سوالات کئے اور رقم نے ان کو جوابات دیکر مطمئن کر دیا ان سوالات اور جوابات کو افادۂ عام کی غرض شائع کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔

سب سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ جن بات واضح ہو جانے کے بعد اس کو عوام کے ڈر سے چھپانا شریعت کی نظر میں انتہائی سنگین جرم ہے جس پر سابقہ متون پر اللہ کا عذاب بھی آچکا ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے: اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے کوئی کو چھپایا جو اسکے پاس اللہ کی طرف سے آچکی تھی۔ (البقرہ ۱۴۶) اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس سے کوئی دینی بات پوچھی گئی اور اس نے جاننے کے باوجود اس چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ (ابوداؤد۔ ترمذی) اس سے معلوم ہو گیا کہ جن بات کے چھپانے کا وبال کیا ہے۔ جن بات کو صحیح طور پر واضح کرنا چاہئے چاہے لوگ راضی ہوں یا ناراض۔ اب آئیے سوال جواب کی طرف۔۔۔

سوال ۱۔ لوگوں کا عام خیال یہ ہے ہمیں کہ مقامی مسجد یا مرکز کی اتباع کرنی چاہئے۔ کیا یہ خیال صحیح ہے؟  
جواب۔ نہیں یہ خیال صحیح نہیں۔ شریعت کے احکام کے دلائل چار ہیں۔ ۱۔ قرآن مجید ۲۔ احادیث رسول ۳۔ اجماع امت اور ۴۔ قیاس مقامی مسجد یا مرکز اس میں شامل نہیں ہمیں اس بات کی اتباع کرنی ہے جو ان چاروں کی روشنی میں ثابت ہوں۔

سوال ۲۔ حزب العلماء کا تیار کردہ نام ٹیبل اکثر مساجد میں ہے جبکہ ہمارا (مسجد عمر کا) بہت کم مساجد میں ہے۔  
جواب۔ حزب العلماء کے نام ٹیبل کے بارے میں تفصیلی گفتگو آگے آرہی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت نے حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار اکثریت اور اقلیت پر نہیں رکھا بلکہ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا اکثر اوقات راہِ حق پر چلنے والے اقلیت ہی میں تھے۔ ارشاد الہی ہے: اور میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ (سبا ۱۳) جب کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: اور ان میں سے اکثر ناسق ہیں۔ (حدید ۲۶) اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک مختصر جماعت (طائفتہ) باقی رہے گی جو ان کی حق بات میں مدد کرتی رہے گی ان کے دشمن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے گی۔ (بخاری۔ مسلم)

سوال ۳۔ دوسروں کی طرح ہم حزب العلماء کے نام ٹیبل کی اتباع کیوں نہیں کر سکتے تاکہ ہماری تحریک بھی ایک گھنٹہ تاخیر سے ہو سکے۔  
جواب۔ حزب العلماء کے نام ٹیبل کی اتباع صحیح نہ ہونے کی چند وجہ ہیں۔

۱۔ صبح صادق کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے: لکھاؤ اور پیو حتیٰ کہ سفید تا گالے تا گے سے ممتاز ہو جائے۔ (البقرہ ۱۸۴) اور صبح صادق مشرقی آفتاب پر پو پھنکا مراد ہے جس کے بعد رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور صبح کی روشنی پھیلتی ہے۔  
جمہور فقہاء کرام اور متفقین عظام کو پو پھنکنے ہی کو صبح صادق قرار دیتے ہیں اور احناف کے یہاں اسی پر فتویٰ ہے (شامی ج ۱ ص ۳۵۷)  
اسلاف امت اور موجودہ علماء کرام کا اسی پر عمل ہے۔

حزب العلماء کے نام ٹیبل میں جو ہمارے نام ٹیبل سے ایک گھنٹہ لٹ ختم تحریک کا وقت دیا ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی بنیاد تہذیبانہ فخر ہے یعنی صبح صادق کی سفیدی کا آفتاب پھیل جانا جس کی ثرابی کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ اور فرض عبادات میں احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ مزید برآں میں نے دعویٰ کا لفظ استعمال کیا یہ حقیقت ہے اس لئے کہ مشاہدے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مشاہدہ کا معنی آنکھوں سے دیکھنا۔ عوام کو یہ یقین اور باور کرایا جا رہا ہے کہ حزب العلماء نے یہ نام ٹیبل سال بھر کے طویل مشاہدہ کے بعد تیار کیا ہے۔ جبکہ یہ خلاف حقیقت ہے۔ خود ان کی تحریر کے مطابق صرف ۵۰ دن مشاہدہ کیا گیا اور ان ۵۰ میں سے صرف اور صرف ۱۰ دن کا مشاہدہ ریکارڈ کیا گیا جنوری، اپریل اور جولائی میں مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ کیا ایسا مشاہدہ جسمیں ۳۱۵ دن (مکمل ۳ مہینے شامل ہیں) مشاہدہ ہی نہیں اس کو مشاہدہ کا نام ٹیبل کہا جاسکتا ہے؟ بقیہ دنوں میں کس طرح نام ٹیبل مقرر کیا گیا؟ غیر اطمینان بخش اور شرعی تقاضوں سے دور۔۔۔

حزب العلماء کے نام ٹیبل میں ایک اور خامی یہ ہے کہ خود انہوں نے اپنے مشاہدہ کی اتباع نہیں کی صرف ۱۱ مشاہدہ ریکارڈ کئے گئے اور ان گیارہ میں ۱۵۔ ۲۱۔ اور ۲۵ مئی، ۶۔ اور ۱۳ جون نیز ۷ اور ۱۶۔ اگست کے مشاہدہ کا نام ٹیبل اور ہے اور نام ٹیبل میں کچھ اور نام دیا گیا ہے۔ اگر حزب العلماء کو اپنے مشاہدہ پر خود اطمینان نہیں ہے تو وہ ماہر علماء سے کیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کا نام ٹیبل کی مخالفت کریں جو صدیوں سے جمہور علماء اور ماہرین فلکیات کے مشاہدہ پر مبنی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم حزب العلماء کے دعویٰ مشاہدہ پر مبنی نام ٹیبل کو اس لئے تسلیم نہیں کرتے کہ (۱) خود اپنے مشاہدہ کی مخالفت کرتا ہے۔ (۲) سال کے اکثر دنوں میں مشاہدہ نہیں